

## پروف ریڈنگ اور پرلیس کاپی

کسی دن منھ انڈھیرے بیدار ہو جائیے اور چہل قدمی کے لیے شہر کی کسی سڑک پر نکل جائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ شہر بھی سور ہا ہے لیکن سائیکل پر سوار اخبار والے گھروں اور دفتروں میں اخبار پہنچانے کے لیے رواں دواں ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہو گا کہ اخبار کتنی جلدی چھپ جاتا ہے کہ سورج کی کرنوں سے پہلے ہمارے گھروں میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہو گی کہ اخبار کی تیاری میں سینکڑوں افراد رات بھر لگ رہتے ہیں اور رات دو بجے کے قریب اخبار کی فائل کاپی چھپنے کے لیے پرلیس بھیج دی جاتی ہے جسے ہم پرلیس کاپی کہتے ہیں۔ گویا پرلیس کاپی یہ چھپ کر اخبار کی صورت میں صحیح سوریے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔

### پرلیس کاپی 5.1

ہم جانتے ہیں کہ ایک اخبار کئی صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور سے کسی اخبار میں صفحات کی تعداد 12 سے لے کر 30 تک ہو سکتی ہے۔ ضرورت کے مطابق صفحات کی تعداد میں کمی بیشی ممکن ہے۔ ضمیمه (Supplement) کو شامل کر لیں تو بعض اخبارات میں صفحات کی تعداد 50 کے ہندسے کو بھی پا رکر جاتی ہے۔ اخبار کے ہر صفحہ کا ایک ایڈیٹر ہوتا ہے جس پر اس صفحہ کی پرلیس کاپی تیار کرنے کی ذمے داری ہوتی ہے۔

#### ❖ اشتہارات

اخبار کی اصل آمدی اشتہارات سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ اخبار کا کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں اشتہارات نہیں ہوں۔

بغیر اشتہارات کے اخبار کا نالقریبانا ممکن ہے یا پھر اس کی قیمت بہت زیادہ رکھی پڑے گی۔

پرلیس کاپی تیار کرنے کے پہلے مرحلے میں ہر صفحہ پر اشتہارات کے لیے جگہ مخصوص کردی جاتی ہے۔ درجہ بند اشتہارات کا ملوں میں شائع کیے جاتے ہیں۔ درجہ بند تصویری اشتہارات اور تصویری اشتہارات کی چوڑائی بھی ایک یا اس سے زیادہ کالم پر محیط ہوتی ہے۔ اشتہارات کے بعد صفحہ پر جو جگہ بچتی ہے، اُس میں خبریں وغیرہ چھاپی جاتی ہیں۔ عموماً اخبار کے اہم صفحات مثلاً صفحہ اول، ادارتی اور آپ ایڈ (opp-ed) صفحات وغیرہ پر 50 فیصدی سے زیادہ جگہ میں اشتہارات نہیں شائع کئے جاتے جب کہ کم اہم صفحے پر آدھے سے زیادہ صفحات اور کبھی کبھی پورے صفحہ پر اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں۔ عموماً اشتہارات کی ترتیب اور ڈیزائنگ وغیرہ کے لیے اخبار میں علاحدہ شعبہ ہوتا ہے۔

#### ❖ خبریں، رپورٹیں وغیرہ شامل کرنا

اشتہارات کے بعد ہر صفحہ پر جو جگہ بچتی ہے اس میں متعلقہ ایڈیٹر خبریں، تصاویر اور دیگر اسٹوری شامل کرتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے





کہ اخبار کے ہر صفحہ کی چوڑائی کو آٹھ کالموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ متعلقہ ایڈیٹر، مدیر اعلیٰ سے مشورے کر کے یہ طے کرتا ہے کہ کون سی خبر لیڈ اسٹوری (Lead-Story) ہوگی اور اسے کتنے کالم میں پیش کرنا ہے۔ عموماً لیڈ اسٹوری کے ساتھ تصویر یا اعداد و شمار بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ کس خبر یا مضمون پر ایک سرخی لگائی جائے گی یا پھر شہ سرخی اور ذیلی سرخی لگائی جائے گی، یہ فیصلہ بھی ایڈیٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد باقی خبریں اہمیت اور ترجیحات کے مطابق اخبار میں جگہ پاتی ہیں۔ بعض دفعہ اخبار کے کسی خاص صفحہ پر 4 سے لے کر 6 کالموں میں اسٹوری شامل کی جاتی ہیں۔ اکثر ادارتی صفحہ پر یہ صورت نظر آتی ہے۔ اسی طرح اتوار کے روز اکثر اخبارات خصوصی ضمیمہ شائع کرتے ہیں جن میں پانچ یا چھے کالموں کا اہتمام کیا جاسکتا ہے۔ کسی خبر سے متعلق اگر کوئی تصویر شائع کی جاتی ہے تو اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ تصویر ایک یا اس سے زیادہ کالم کو مکمل طور سے پُر کرے اور خبر کے ساتھ ہی منسلک ہو۔

### ڈیزائنگ اور اسائیل

ہر اخبار کا منفرد انداز اور ڈیزائنگ کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ مثلاً بارڈر، تحریر کو تصویر سے جدا کرنے والی لائن، رنگوں کا استعمال، سرخیوں کی موٹائی اور فونٹ، شہ سرخی اور ذیلی سرخی کی ترتیب، فی صفحہ کالموں کی تعداد وغیرہ کی بنیاد پر ہر اخبار دوسرے اخبار سے جدا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر اخبار کی ڈیزائنگ اور انداز (Style) طے شدہ ہوتے ہیں اور پریس کاپی تیار کرتے وقت اسی کی پیروی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اخبارات میں پہلے شہ سرخی اور پھر ذیلی سرخی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو بعض اخبارات میں ذیلی سرخی پہلے لگائی جاتی ہے اور پھر شہ سرخی۔ بعض اخبار ہر صفحہ کی لیڈ اسٹوری کی شہ سرخی میں ایک دولفاظ کسی مخصوص رنگ میں چھاپتے ہیں۔ آئے دن اخبارات کو پُر کشش اور دیدہ زیب بنانے کے لیے نئے نئے تحریبے کیے جا رہے ہیں۔

### 5.2 پروف ریڈنگ

پروف ریڈنگ کسی متودے کی کتابت شدہ، ٹائپ شدہ یا کمپوز شدہ کاپی کا بغور مطالعہ کرنا اور ان میں واقع ہونے والی خامیوں اور کوتایہوں کی نشاندہی کر کے انھیں درست کرنے کا کام ہے۔ پروف ریڈنگ میں املاء، الفاظ اور جملے کی ساخت کی غلطیوں کی صحیح کی جاتی ہے، نیز قواعد، اسلوب اور الفاظ کے استعمال پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ پروف ریڈنگ میں رموز اوقاف پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے ورنہ ان کے عدم استعمال یا غلط استعمال سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے اس

#### 8.12 سرگرمی

اگر آپ کو کسی کتاب یا مضمون کا مسودہ پر دو فریڈنگ کے لیے دیا جائے تو آپ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟





ضمون میں ہم یہ مثال سنتے چلے آرہے ہیں:  
 روکو، مت جانے دو۔  
 روکومت، جانے دو۔

### Punctuation

وہ خاص علامتیں جو عبارت کو درست طور پر پڑھنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، انھیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔

#### (i) ختمہ (-)

وہ نشان جو جملہ مکمل ہونے پر لگایا جاتا ہے، اُسے ختمہ کہتے ہیں۔ مثلاً آج اول میپ کھیلوں کا افتتاح ہو گا۔



#### (ii) سکنہ (‘)

دو یادو سے زیادہ الفاظ یا فقروں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے یہ نشان استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا اٹھرنے کی علامت ہے۔ مثلاً احمد، جیل اور پرکاش تقریری مقابلے میں حصہ لیں گے۔

#### (iii) وقفہ (؛)

سکنے سے ذرا زیادہ اٹھرنے ہو تو وقفہ کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی بات کے بعد اگر یہ علامت آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے اس سے متعلق تفصیل بیان کی جائے گی۔ مثلاً خیر و شر کی جگہ؛ یہ جگہ اzel سے جاری ہے اور اب تک یوں ہی جاری رہے گی۔

#### (iv) رابطہ (:)


وہ نشان جو کسی بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یا پھر کسی شخص کے بیان کو اس سے منسوب کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اُسے رابطہ کہتے ہیں۔  
 نظم کی چار قسمیں ہیں: پابند نظم، معراج نظم، آزاد نظم، نثری نظم  
 ہم و رلڈ کپ جیت کر لائیں گے: دھونی

#### (v) سوالیہ نشان (؟)

جب کسی جملے کا مقصد سوال پوچھنا ہوتا جملے کے آخر میں یہ نشان لگاتے ہیں۔  
 سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟

### 8.13 سرگرمی

خبر کے کسی ایک صفحے کی پرلیس کا پی تیار کیجیے۔ پرلیس کا پی تیار کرتے وقت صفحے کی ڈیزائنگ پر خاص توجہ دیجیے۔ اس سلسلے میں اردو و انگریزی کے مختلف اخبارات کے ڈیزائن اور سینگ سے مدد لیجیے۔ اپنے صفحے میں اشتہارات، خبروں، تصاویر اور مختلف اسٹوری کو اس طرح شامل کریں کہ صفحہ دیدہ زیب اور دل کش گے۔ خبروں کی اہمیت کے اعتبار سے پُرکشش شہر خیوں اور ذیلی سرجنوں کا انتخاب کیجیے۔





آپ نے کھانا کھا لیا؟

#### (vi) فجائیہ (!)

حیرت، تجرب، خوشی یا غم وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے اس نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔  
کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔

کیا غصب کا موسم ہے!  
کتنا حسین منظر ہے!  
آہ! خبر بھی سننی تھی۔  
دستو! شام ہوئی، اب گھر چلیں۔

#### (vii) واوین (".....")

کسی کے بیان کو من و عن اُسی کے الفاظ میں نقل کرنا ہوتا پورے بیان کو واوین کے اندر لکھتے ہیں۔ کسی ناول، افسانے، ڈرامے وغیرہ کے نام کو بھی واوین میں لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً

”ج تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی سے مطمئن نہیں ہوتا۔“ درویش نے کہا۔

”فوٹو گرافز“ قرۃ العین حیدر کاشاہ کا رافسانہ ہے۔

#### (viii) قوسین ( )

لفظ یا بات کی وضاحت، اضافی شکل، معنی یا دوسری زبان میں پیش کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً

اب راہیم عادل شاہ ہانی (دول حکومت: 1580-1627)

ہم اکٹھ ٹھیکن (Tuition) کے لیے ساتھ جایا کرتے تھے۔

### » پروف ریڈنگ کا طریقہ کار

پروف ریڈنگ کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پروف ریڈر اصل متن کو سامنے رکھتا ہے اور پروف کا پی کو اس سے ملا کر پڑھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پروف ریڈر اصل متن کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ پوز شدہ کا پی کا غور سے مطالعہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طریقے میں خامی یہ ہے اگر اصل متن کی چند سطریں یا ایک دو جملے پوز ہونے سے رہ گئے ہیں، بہ نظاہر پروف کا پی میں جملے مربوط معلوم ہو رہے ہیں تو یہ کی کپڑ میں نہیں آتی اور مواد اس کی کے ساتھ ہی شائع ہو جاتا ہے۔ پروف ریڈنگ کا سب سے اچھا طریقہ





یہ ہے کہ دو پروف ریڈر ہوں ایک اصل متن کو بے آواز بلند پڑھے اور دوسرا سننے کے ساتھ ساتھ خامیوں کو درست کرتا رہے۔ اس طریقے میں اُس پروف ریڈر کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جس کے ہاتھ میں پروف کاپی ہے اور جو خامیوں کو درست کر رہا ہے۔ کیونکہ دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی متعدد ایسے الفاظ ہیں جو سننے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کی املایا جیسے مختلف ہیں، مثلاً ’ثواب‘ اور ’صواب‘ یا ’عام‘ اور ’آم‘ وغیرہ۔ اس طریقے میں غلطیوں کے چھوٹ جانے کا امکان کم رہتا ہے اور مجتہد وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔

### » پروف ریڈر کے اوصاف

کسی زمانے میں پروف ریڈر سے متعلق ہمارا یہ تصور تھا کہ جس طرح کا تب یا کمپوزر اصل متن کو دیکھ کر اس کی نقل تیار کرتا ہے اُسی طرح پروف ریڈر کا کام بھی یہ ہے کہ اصل متن سے کتابت شدہ یا کمپوز شدہ کاپی کا مقابل کرے۔ لیکن آج جب کہ یہ ایک پیشہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور مختلف اداروں میں اس کی تعلیم اور تربیت کا نصاب رائج ہے؛ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پروف ریڈر میں بھی بہت سی صلاحیتیں موجود ہوئی چاہئیں۔ چنانچہ یہ موقع کی جاتی ہے کہ ایک اچھے پروف ریڈر کو مختلف علوم مثلاً سائنس، سماجیات اور ادب کی بنیادی معلومات ضرور ہوئی چاہیے۔ اس کے علاوہ آرٹ، گرافیکس اور کمپیوٹر کے استعمال کے بارے میں بھی کسی حد تک علم رکھتا ہوتا کہ ڈیٹا، ٹیبل اور نقشے وغیرہ کی خامیوں کو سمجھ سکے۔ اردو کی حد تک زبان، قواعد، اصطلاحات، روز مرہ، محاورے اور کہاونوں سے اس کی واقفیت ضرور ہوئی چاہیے۔ اسی طرح اسے کلائیکن، اسلا اور سیم خط سے بھی آگاہی ہوئی چاہیے۔ ایک اچھے پروف ریڈر کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ غلطیوں کو درست کر سکے۔



## ۲) غور کرنے کی بات

ترجمے کے حوالے سے ”متن اور مترجم“ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

- ایک اچھا مترجم ترجمے کو بہتر اور موثر بنانے کے لیے مختلف وسائل کو بروئے کار لاتا ہے جن میں لغت، فرہنگ، تھیسارس اور انسائیکلو پیڈیا کی خاص اہمیت ہے۔

- ترجمے کے دوران لغت اور فرہنگ کی مدد سے ہم کسی لفظ کے معنی و مفہومی بندیدی اور مطلوبہ زبان میں معلوم کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا لفظ ترجمے کے لیے موزوں ترین ہے۔

- تھیسارس کا بنیادی کام کسی لفظ کے مترافات کی فراہمی ہے۔

- انسائیکلو پیڈیا کی مدد سے ہم بعض الفاظ، اشخاص، دیومالائی، تاریخی اور تہذیبی کردار و مقامات و تصورات کے پس منظر سے واقف ہو جاتے ہیں جس سے ترجمے میں مدد ملتی ہے۔

- مشینی ترجمہ بھی ابتدائی دور میں ہے لیکن امید کی جاتی ہے کہ مستقبل قریب میں مشینی ترجمہ بہتر ہو جائے گا۔

- مشینی ترجمہ کا سب سے برافائدہ یہ ہے کہ بہت کم وقت میں ترجمہ ہو جاتا ہے لیکن خامی یہ ہے کہ ترجمے میں کافی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔

- ہر زبان کی مخصوص قواعدی اور لسانی ساخت ہوتی ہے۔ ترجمے کے دوران بنیادی زبان کی ساخت کو مطلوبہ زبان میں نہیں برتاؤ جاسکتا ہے۔ مطلوبہ زبان میں جملوں کی ساخت بدل جاتی ہے۔

- ایک لسانی خاندان کی زبانوں کے درمیان ترجمے کا عمل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

- ادارت کا بنیادی مقصد تحریر کی خامیوں کو دور کر کے زبان کو خوبصورت، تحریر کو موثر اور ترسیل کو بہتر بنانا ہے۔

- شعرو ادب، ترجمہ اور میڈیا ان تینوں شعبوں میں ادارت کی خاص ضرورت پڑتی ہے۔

- اخبار کی وہ کاپی جو چھپنے کے لیے پر لیں کو بھیجی جاتی ہے، اُسے ہم پر لیں کاپی کہتے ہیں۔





## EXERCISE

پیشی

- 1۔ مختلف وسائل ترجمے کے عمل میں کس طرح معاون ثابت ہوتے ہیں؟ مثالوں کی مدد سے واضح کیجیے۔
- 2۔ مشینی ترجمے کی مشکلات و مسائل اور امکانات و اصلاحات پر روشنی ڈالیے۔
- 3۔ ترجمے کے عمل میں زبان کی ساخت سے واقفیت کیوں ضروری ہے؟ مثالوں سے واضح کیجیے۔
- 4۔ ادارت (Editing) کی تعریف و تفہیم، اہمیت اور افادیت پر اظہار خیال کیجیے۔
- 5۔ کسی ادیب/ شاعر کو اپنی تخلیقات کی ادارت میں کن مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے؟
- 6۔ نیوز کاپی سے کیا مراد ہے؟ ایڈیٹنگ اور سب ایڈیٹنگ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟
- 7۔ پریس کاپی کن مرحلہ سے گزر کر عوام تک پہنچتی ہے؟
- 8۔ پروف ریڈینگ میں کن بنیادی نکات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے؟
- 9۔ پروف ریڈینگ کے مختلف طریقوں پر مختصرًا اظہار خیال کیجیے۔

